The Millat Daily.

روزانہ ملت

جلد ۱۰ - نمبر شمار [illegible] | دہلی دوشنبہ ۵ جنوری سنہ [illegible]ء مطابق ۱۱ ذوالقعدہ سنہ [illegible]ھ | ایڈیٹر محمود جعفری

دھلی میں انگریزی اخبار کے دفتر کی تلاشی

دو آدمیوں کو گولی ماردی گئی - کانگریس کی اسمبلی میں کامیابی کی توقعات - امریکہ میں زبردست سیلاب

آزادی کامل کے قرارداد کی منسوخی کا حکم

[illegible]

حیدرآباد میں تانگہ ڈرائیوروں کی ہڑتال

مسافروں اور شہریوں کو شدید تکلیف

[illegible]

عراقی افواج کیلئے رائفلوں کی خرید

[illegible]

دہلی [illegible] میں دو آدمیوں پر فیر

[illegible]

پرتگال کے دفتر جنگ میں بم پھٹ گیا!

[illegible]

ڈاکٹر مونجے کا فوجی اسکول

[illegible]

[illegible] میں ایک خونریز جنگ کی یاد

[illegible]

[illegible] بانی کو جنت بنانے کی کوشش

[illegible]

لاہور میں زلزلہ

[illegible]

جیب کترنے کا ریکارڈ

[illegible]

کانگریس کو آٹھ صوبوں میں کامیابی ہو جائیگی

انتخابات کے متعلق مسٹر ڈیسائی کی پیش بینی

عوام میں زبردست بیداری

[illegible]

صوبہ سرحد کانگریس پارلیمنٹری بورڈ کے نام پنڈت جواہر لال نہرو کا مکتوب

سرحدی گاندھی کو کانگریس امیدواروں کو کامیاب بنانے کی تلقین

[illegible]

حضور نظام کی سلور جوبلی

تقریبات ۱۰ فروری سے ۲۰ فروری تک جاری رہینگی

[illegible]

امریکہ میں [illegible] کی گدی نشینی

[illegible]

ایک مسلمان نمبردار کا سنگدلانہ قتل

مقتول کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی

[illegible]

نوٹس

[illegible]

مکہ مکرمہ میں فلسطین کانفرنس

والی عبد حجاز کو شاہ عراق کی دعوت

[illegible]

آریہ ، جینوں کی شادی کے متعلق بل

حکومت [illegible] کانفرنس [illegible]

[illegible]

حکومت بمبئی کی طرف سے پابندی

یوم آزادی کا بیان شائع کر دیا گیا

[illegible]

پنڈت جواہر لال نہرو کا عزم [illegible]

[illegible]

بندوقوں اور کرپانوں سے مسلح ڈاکوؤں نے ایک ساہوکار کو لوٹ لیا

ساہوکار کی بیوی کا گلا گھونٹ کر اس سے زیور کی چابیاں حاصل کر لیں

ڈاکوؤں نے تعاقب کرنیوالے دیہاتیوں پر فائر کر دئیے کئی دیہاتی زخمی ہو گئے

[illegible]

امریکہ میں سیلاب کی تباہیاں

ہزاروں آدمی بے خانماں

[illegible]

[illegible] صوبوں میں حکومتوں کے قائم ہونیکا امکان بڑھتا جا رہا ہے

[illegible] کی حکومت صوبہ [illegible] تک محدود ہو جائیگی

[illegible]

لیڈی لنلتھگو رنگون میں

[illegible]

دہلی ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کے انتخابات

یوم آزادی کے انتظامات [illegible]

[illegible]

مشرق بعید میں برطانیہ کی زبردست جنگی تیاریاں

ہانگ کانگ، سنگاپور اور سیلون میں نئے ہوائی مستقر قائم ہو گئے

بحر الکاہل کے نئے بحری جنگی مرکز سنگاپور، شمالی ملایا میں قلعہ بندیاں ہوں گی

[illegible]

ہندوستان آئندہ جنگ میں شامل ہو

تمام سیاسی قیدیوں کو جو تشدد کے مرتکب نہیں ہوئے رہا کیا جائے

اسمبلی میں مسٹر مجادر کی تحریک

[illegible]

یمن میں بغاوت کی افواہ

[illegible]

احاطہ کچہری لاہور میں ووٹروں کے درمیان فساد

پتھروں، کنکروں اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال

[illegible]

فیڈریشن کی نسبت

انکم ٹیکس کی شرح میں اضافہ

[illegible]

برطانیہ میں سابق شاہ ایڈورڈ کے خلاف…

[illegible]

کانگریس سے علیحدہ کر دیا

ناگپور میں ایک خاتون کا اخراج

[illegible]

لندن کی اطالوی گیر عورتیں

گورنمنٹ کا تاجروں کو شکایت

[illegible]

نصرت فلم کمپنی

[illegible]

بحیرہ شمالی میں

[illegible]

بمبئی کے گذشتہ فسادات کا اثر

سات سال قید سخت کی سزا

[illegible]

علاقہ … میں الکشن بورڈ قائم ہو گیا

[illegible]

جامع مسجد کا قیام

[illegible]

روزانہ

ملت

جلد ۱۶ - شمارہ ۱۸

دہلی دوشنبہ ۲۵ جنوری ۱۹۵۵ء مطابق ۱۰ ذوالقعدہ ۱۳۷۴ھ

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲۵۳۰

گاندھی جی پانچ روپیہ میں فروخت ہوگئے

"جانتی ہیں کہ میں بنا ہوں، باپو کی قیمت لوں گا"

گاندھی جی کا لڑکوں سے دلچسپ مذاق

۱۴۰ سالہ بڑھیا گواہوں کے کٹہرے میں

غدر کے وقت اس کی عمر ۴۰ سال کی تھی

ریڈیو پروگرام

شیڈولڈ والوں کی ہڑتال کے متعلق

چیف کمشنر دہلی کا اعلان

مذہبی مدارس کے ...

مالک وکٹوریہ کے روپیہ کے متعلق فیصلہ

کانپور کے ڈاکٹر کے اغوا کا انکشاف

لیڈی ہیلتھ

شیڈولڈ والوں کا جلوس اور جلسہ

اتوار ۲۰ جنوری ۱۹۵۵ء